




(imageless edition)

✎ Ingrid Schechter  
 🗣️ Ingrid Schechter  
 📄 Samrina Sana  
 🗣️ Urdu / French  
 📖 Level 2



Tingi et les vaches

تینگی اور تھیں



# Storybooks Canada

[storybookscanada.ca](http://storybookscanada.ca)

تینگی اور تھیں / Tingi et les vaches

Written by: Ingrid Schechter

Illustrated by: Ingrid Schechter


Translated by: (ur) Samrina Sana, (fr) Olivia Mahe,

Translators without Borders

This story originates from the African Storybook ([africanstorybook.org](http://africanstorybook.org)) and is brought to you by Storybooks Canada in an effort to provide children's stories in Canada's many languages.



This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 International License.  
<https://creativecommons.org/licenses/by/3.0>



ٹینگلی اپنے دادی کے ساتھ رہتا ہے۔


...


Tingi vivait avec sa grand-mère.

Il gardait les vaches avec elle.

...

۱- بیگم کی نگرانی کرتے ہوئے وہ اپنے





ایک دن فوجی آئے۔


...

Un jour, des soldats arrivèrent.

Ils revinrent chez eux sans faire le moindre bruit.

...


وہ تہمتیہ ہوئے جا موچی سے کھڑے آئے۔




Ils emmenèrent les vaches.

...

وہ گائے لے کر آئے۔






ٹینگلی اور اُس کی دادی دور بھاگے اور چھپ گئے۔

...

Tingi et sa grand-mère se sauvèrent et se cachèrent.



جب یہ محفوظ تھا تو، ٹینگلی اور اس کی دادی باہر آئے۔

...

Quand il n'y eut plus de danger, Tingi et sa grand-mère se relevèrent.


ne réagit pas.

Un des soldats marcha sur Tingi, mais celui-ci

...

- ہر شے

ہو، نہتہ - تھر سوا، اور اے اس کے لئے اس سے متنبہ





soir.

Ils restèrent cachés dans des buissons jusqu'au

...

- ہر شے چھپ کر ہی پھاڑا، اور وہ






پھر فوجی واپس آگئے۔

...

Puis les soldats revinrent.



دادی نے ٹینگلی کو پتوں کے نیچے چھپا دیا۔

...

La grand-mère de Tingi recouvrit alors leurs corps de feuilles.